




اونچائی سے گرنے کے خلاف روک تھام -

3. حفاظتی جالی اور حفاظتی پٹی کا استعمال۔

حفاظتی جالی اور حفاظتی بیلت یا پٹی کا استعمال اسی وقت کرنا چاہیے جب کام کرنے کے لیے محفوظ جگہ یا چبوترے کا بندوبست کسی بھی حالت میں بالکل ممکن نہ ہو۔

حفاظتی جالی۔



حفاظتی بیلت یا پٹی۔

معلومات : شعبہ محنت

2559 2297 : پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت کی انکوائری کی ہاٹ لائن

enquiry@labour.gov.hk


2542 2172 : پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت کی شکایت کی ہاٹ لائن

تمام شکایات سے انتہائی رازداری کے ساتھ نمٹا جائے گا

پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت کاؤنسل

2739 9000 : ٹیلی فون نمبر

oshc@oshc.org.hk



شعبہ محنت




شعبہ محنت، پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت کاؤنسل۔



safety at work

2- کام کرنے کے لیے محفوظ چبوتروں کی مثالیں۔

1- زمین عمارت یا کسی اور مستقل ڈھانچے یا جگہ پر کام کرنے کے لیے حفاظتی انتظامات کی مثالیں۔



محفوظ رسائی اور نکلنے کے راستے کا بندوبست




فرش پر کھلی جگہوں کو ڈھانپنے اور ان کی نشاندہی کا بندوبست۔




سیڑھیوں پر محفوظ حفاظتی جنگلوں اور سہارہ دینے والے جنگلوں کا بندوبست۔




فرش کے کناروں پر محفوظ حفاظتی جنگلوں اور پنچوں کے لیے تختوں کا بندوبست۔




لفٹ کھلنے کی جگہوں پر محفوظ حفاظتی جنگلوں اور پنچے رکھنے کی جگہ کا بندوبست



دوہری قطار والا ڈھانچہ اور کام کرنے کا چبوترہ۔



لوہے کا متحرک منارہ نما ڈھانچہ ۔



کسا ہوا کڑیوں کا ڈھانچہ۔